

25 ستمبر 2018

## پیشگی ووٹنگ 2 اکتوبر 2018 سے شروع ہو رہی ہے

برامپٹن، آن – برامپٹن کے بلدیاتی الیکشن میں پیشگی ووٹنگ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہے اور اکتوبر کے مہینے کے دوران آٹھ دن کے لیے ہو گی۔ پیشگی ووٹنگ 2، 3، 4، 6، 9، 10، 11 اور 13 اکتوبر 2018 کو منعقد کی جائے گی۔ اس کے مقامات کی مکمل فہرست ذیل میں موجود ہے۔ ووٹرز اپنی رہائش سے قریب ترین پیشگی ووٹنگ کا مقام تلاش کرنے کے لیے [brampton.ca/bramptonvotes](http://brampton.ca/bramptonvotes) پر موجود [انٹر ایکٹو ٹول](#) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

### پیشگی ووٹنگ کے مقامات

منگل تا جمعرات، 2 – 4 اکتوبر، صبح 8:30 تا رات 8 بجے تک  
• برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو (Brampton City Hall, 2 Wellington St W)

- ہفتہ، 6 اکتوبر اور ہفتہ، 13 اکتوبر، صبح 10 تا شام 5 بجے تک  
• برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو (Brampton City Hall, 2 Wellington St W)
- برامپٹن ساکر سنٹر، 1495 سینڈل وڈ پارک وے ای (Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E)
- کیسی کیمپیل کمیونٹی سنٹر 1050 سینڈل وڈ پارک وے ڈبلیو (Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W)
- سنچری گارڈنز ریکرییشن سنٹر، 340 ووڈن اسٹریٹ ای (Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E)
- ڈیوڈ سوزوکی سیکنڈری اسکول، 45 ڈیویسلیم ڈرائیو (David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr)
- ارنزکلف ریکرییشن سنٹر، 44 ایسٹ بورن ڈرائیو (Earncliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr)
- گور میڈوز کمیونٹی سنٹر، 10150 دی گور میڈوز روڈ (Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd)
- گرین برائر ری کرییشن سنٹر، 1100 سنٹرل پارک ڈرائیو (Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr)
- جم آرچ ڈیکن ریکرییشن سنٹر، 292 کونیستوگا ڈرائیو (Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr)
- ساؤتھ فلچر اسپورٹسپلیکس، 500 رے لاء سن بولیورڈ (South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd)

منگل تا جمعرات، 9 - 11 اکتوبر، صبح 8:30 تا رات 8 بجے تک

- سوک سنٹر، 150 سنٹرل پارک ڈرائیو (Civic Centre, 150 Central Park Dr)

پیشگی ووٹنگ کی کچھ تاریخیں تھینکس گونگ کے ویکینڈ پر آتی ہیں، تاکہ تمام ووٹرز کے لیے ووٹ دینے کو آسان بنایا جا سکے، بشمول اہل طلباء، جو لمبے ویکینڈ کے لیے گھر پر موجود ہوں گے۔ تاریخی طور پر، نوجوان (18 - 29 سال کی عمر) افراد کا ووٹ دینے کا تناسب تمام اہل ووٹرز کی نسبت کم ترین رہا ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہیں۔

اضافی شہ سرخیاں

- ووٹ دینے کا دن پیر، 22 اکتوبر 2018 کو صبح 10 تا رات 8 بجے تک ہو گا۔
- ووٹ دینے کے لیے، اپنا نام اور برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز اور کینیڈا پوسٹ میل کے ذریعے موصول کردہ ووٹر نوٹس کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ کے مقام پر لائیں۔
- اگر آپ کو ووٹر نوٹس نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں، لیکن آپ کو ووٹنگ کے مقام پر فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لازمی طور پر [مطلوبہ شناخت](#) اپنے ساتھ لانی چاہیے۔
- اگر آپ نے ووٹرز لسٹ پر ڈالے جانی کی درخواست کی ہے یا اپنی معلومات کو آن لائن اپ ڈیٹ کیا ہے، تو آپ کو ووٹنگ کی جگہ پر اپنی شناختی دستاویز لازمی طور پر لانی چاہیے۔
- پیشگی ووٹنگ کے تمام مقامات پر معذور افراد کے استعمال کے لیے قابل استعمال ووٹنگ یونٹ موجود ہو گی۔
- پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے افراد کے لیے ['ووٹ دینے کی رہنماء'](#) ہدایات مفید ہو سکتی ہیں۔
- اگر آپ ووٹنگ ڈے پر پیشگی ووٹنگ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تو [پراکسی ووٹنگ](#) کے بارے میں مزید جانیں۔
- ووٹ دینے کے حوالے سے دیگر سوالات کے لیے سٹی کی ویب سائٹ کے [FAQ والے حصے](#) سے رجوع کریں۔

#### اقتباس

"ان ووٹرز کے لیے پیشگی طور پر ووٹ دینے کے مزید مواقع موجود ہیں، جو جلدی ووٹ دینا چاہتے ہوں۔ ووٹ دینا ہمارے شہر کی حالت کو بہتر بنانے کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم تمام اہل ووٹرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ 2018 برامپٹن بلدیاتی انتخابات میں ضرور ووٹ دیں اور برامپٹن کے مستقبل میں اپنا زیادہ حصہ ڈالیں۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا ریلیشنز

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654